

Q. 7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

لاہور شہر سیاست ہی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز ہے۔ مغلوں کی ثقافت نے عروج کا زمانہ اس شہر میں دیکھا۔ سکھ ثقافت کا بھی یہی مرکز تھا۔ علم و ادب کی ثقافت بھی اسی شہر کے حصہ میں آئی۔ اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے مصنف حضرت علی بجویری المشہور حضرت داتا گنج بخش بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ انگریزوں کے دور میں بھی لاہور کا فیشن پورے ہندوستان میں رائج ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس شہر کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔

Lahore is not only political but cultural hub as well.

Mughals' culture reached climax in this city. It was also the centre of Sikh culture. The very city also witnessed the education and literacy tradition here. Mystics also centered here. The writer of mystic's famous book, ~~"Kashaf"~~ "Kashaf-ul-Mahbub", Hazrat All Hazrat - also famously known as Hazrat Dara Gharj Bakhsh - is also enshrined here.

~~Even~~ In British era, ~~the~~ Lahore's fashion was famous throughout subcontinent. Even after the creation of Pakistan, the importance of Lahore is still intact.